

بچوں کے لئے بائبل
تحائف

ٹوٹا ہوا گوبر چہ
بنان غلام



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: M. Kerr; Sarah S.

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



اسحاق اوس واریاہ خوش - تمسند نیچو یعقوب اوس گر واپس آمت - عیسو تہ اوس
از پنس اوس بایس خوش آوے کران - مگر یعقوبنی پنی نیچوی اسی اندری دزان تہ
دکھی - تکیاز تہند کونس ہیو بوے یوسف اوس پنس مالس یعقوبس
یمو ساروے منز سیٹہاہ ٹوٹہ -




یوسفنَ ییلہِ باینِ پنی خوابِ باویِ تمنِ ووتہِ وارےِ نار۔ یوسفنَ وونکہِ پُنِ خواب۔
"میانہِ (پھلک) ہیولِ اوسِ کلہِ تھوڈِ رُتہِ ییلہِ زنِ میاننِ باینِ ہندیِ ہیلیِ اسیِ غلامنِ
ہندیِ پاٹھیِ کلہِ نوَمرآوتہ۔" خوابکِ تاویل
اوسِ یہِ زِ یوسفِ آسہِ پنیوِ بایوِ کھوتہِ
زیادہِ فضیلتہِ وول۔



يوسف سندس دويمس خوابس
منز اسي آفتاب ، زون ته تارك
تمس نمان - اته پيٽه اوسس
پن مول يعقوب تاني ته ناراضي
ز سئ اوس پانس مائس ته باين
پيٽه ته تهزر دوان -



اکہ دوہہ سوز یعقوبن یوسف مادانس کن یتہ اُمسندی باقرے بائے جب رچہان
آسی۔ بايو وچھ یہ دورے یوان تہ گرکھ ژوے "ؤلیو یہ خوابہ موٓت ژھنہ وون مارتہ۔"
یوسف رود ینہ والہ خطرہ نشہ بے خبرتمن کن پکان۔




تہندی زٹھی بائے روہنن مانی نکہ نہ یہ کتہ مؤلے۔ "تمی وننکہ" یوکن وچھو، "یور
کن چھ یہ اکھ چاہ تہ مری تن اتھی منز۔" رابن اوس زکہ اوس روتلہ چاہ منز کھالتہ
بچاؤن یڑھان۔




يٰٓاَيُّهَا يٰٓاَيُّهَا يٰٓاَيُّهَا
بَيُورُوتَ سُه تِه چورتِه گرتِه
نَيُوسَ سُه رَنگ دَار كُوت
نَالِه كُتِه يٰٓس يَعقُوبِن
اِمِس تَاٲِهَس گُوبِرَس كَيُوت
خَاصِه پَاٲِهِي بِنُومُت اوس-
تِه دِتِكِه اَتِهِي وُهِنَاكِه
چِهَس مَنز دَارَتِه-



رابننہ اور واپس ینہ برُونہے پیو اوْت مصر گڑھن
وول اکھ وونٹہ کارواناہ واْتتہ۔ دویمی باے
یہوداہن وونکھ "چھنا صلاح یوسف گنوں
یمنے" ہیون دیون سپد مقرر۔ تمو گن یوسف
وون چاند پونسن۔



پھر بیٹہ ہوتے تہ نمناک چشمورود یوسف برے کس پاٹھی الان ڈولان
وونٹن وچھان۔ یم افس رڑھ رڑھ پننہ گر نیشہ دور نوان اسی۔



"یہ چھ یوسفن جامہ (کوٹ)۔

خونہ سستی برتہ۔ اسہ لوہ یہ

اُکس صحراوس منز۔ " یمو

ظالم بايو مانروو یعقوب ز

تسند ٹوٹھ گوہر چھ کمی تام

وحشی جانورن کھیئت۔

یعقوبن زٹی پنی جامہ تہ ہیوئن

ماتم۔ کانہہ تہ او نہ تس

تسلی دنہ بروئہہ کن۔



مصرس منز آسہ ہرے یوسفؑ
برے کس، پرڑھیون تہ خوفہ ہوت۔
تس آسہ ہرے گرسے کُن کل۔
مگر اتہ پیٹھہ ژلتہ ینچ اُس نہ
کانہہ وتھا۔ سہ اوس مصرِ کس
اکس اہم حاگم فوطیفار سُنْد
گر غلام۔ فوطیفارن ژیون ز
یوسفؑ چہ سیٹھاہ محنتی تہ
قابل بھروسہ۔



"یتہ ژ کران چُھکھ تہ چُھ رُت پهل نیران"
فوطیفارن وون اکہ دوہہ یوسفس۔ "خدا چھی
ژمے ستری۔ بہ چُھستہ ژ پُنن خاص خادَم، پَننہ
کاروبارُک تہ پَننن سارنی غلامن ہند زیوٹھ
بناؤن یژھان۔"



خداین بخُش فوطیفارس یوسف
سندِ برکتہ رُت ہرُد تہ رنگہ رنگہ
فضیل۔ گوزِ یوسف اوس وون اکھ
اہم شخص۔ مگر سہ رود برابر
پننس خدایہ سند فرمانبردار بند تہ
تس پیٹھ پڑھ تہاوتہ۔ حالانکہ
مصیبت آے یوسفس النہ تہ ولنہ۔





فوطيفار سنز آشنی اُس بدنیت۔ تمہ دژ یوسفس پننس خاندار سنز جامے رٹنچ ژینہ
ون۔ یوسفن کورس سیوڈ نکار۔ تکیاز فوطيفار غلط گرتہ بنہ ہے سہ پننس خدایس
نش گناہ گار۔ ییلہ امہ زنانہ اُمس جبر
ہیوت کرن، یوسف ژول۔ مگر تمہ
ژہنی تس پتی کنی کوٹس تھپہ۔



"چائی غلامن تراؤ مے جیہی"۔ فوطیفار سنر زنانہ کور دعوا۔ "وچھ یہ چھی اُمسند
کوٹ"۔ فوطیفارس گھڑ رکھ۔ شاید اوس سہ زنان ز تسنر آشنی چھے ایزونان۔ مگر
تس اوس کینہہ نتہ کینہہ کرن۔ مگر کرہے تہ کیاہ؟



فوطيفارن بنو يوسف باندی۔ بیله زن
سہ معصوم اوس۔ یوسف نہ بانبریو تہ
نہ کھوتس شرارتہ۔ شاید اوس سہ
پنیو یمو مصیبتو نشہ ہیچہان ز سہ
یتہ آسہ تہ، یتہ حالس منز تہ آسہ۔ اگرے سہ پنس
خدایہ سنز بندگی کران روز خدا تہ کرتس رآچہ۔
یتہ باندی وانس منز تہ۔



ٹوٹھ بیو گوبر چھ بنان غلام

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

پادائش 37، پادائش 39

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

